



وَإِمَّا يَنْزَعَ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
وَإِمَّا يَنْزَعَ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ



اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سُورَةُ حُمَّرَ السَّجْدَةُ / فُصِّلَتْ

اردو ترجمہ

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُمَّر (1)

حُمَّر

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2)

(یہ کتاب خدائے رحمن و رحیم (کی طرف) سے اتری ہے)

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

(ایسی) کتاب جس کی آیتیں واضح (المعانی) ہیں

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ (3)

(یعنی) قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں

بَشِيرًا وَنَذِيرًا

جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے

فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4)

لیکن ان میں سے اکثروں نے منه پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَانٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پر دوں میں ہیں

وَفِي آذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِنَا حِجَابٌ

اور ہمارے کانوں میں بوجھ (یعنی بہر اپن ہے) اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے

فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5)

تو تم (اپنا) کام کرو ہم (اپنا) کام کرتے ہیں

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

کہہ دو کہ میں (بھی) آدمی ہوں جیسے تم

يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

(ہاں) مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خداۓ واحد ہے

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ

تو سیدھے اسی کی طرف (متوجہ) رہو اور اسی سے مغفرت مانگو

وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6)

اور مشرکوں پر افسوس ہے

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمُ الْكَافِرُونَ (7)

جوز کوہ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ أَجْرُ غَيْرِ لَهُمُ الْمُتَّقِنُونَ (8)

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لئے (ایسا) ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو

قُلْ أَتَنْتَكُمْ لِتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا

کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو
دن میں پیدا کیا اور (بتوں کو) اس کا مقابل بناتے ہو

ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9)

وہی تو سارے جہانوں کا مالک ہے

وَجَعَلَ فِيهَا أَرْضًا وَاسِيًّا مِنْ فَوْقِهَا وَبَأْرَاطَ فِيهَا

اور اسی نے زمین میں اسکے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاعَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ (10)

اور اس میں سب سامان معمیشت مقرر کیا (سب) چار دن میں (اور تمام) طبکاروں کے لئے یکساں

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا

فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواہ) خوشی سے خواہ ناخوشی سے

قَالَنَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11)

انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاءَتِ فِي يَوْمٍ مِنْ دَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے (کام) کا حکم بھیجا

وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِهِ مَصَابِيحَ وَحِفْظًا

اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں (یعنی ستاروں) سے مزین کیا اور (شیطانوں) سے محفوظ رکھا

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الرَّحِيمِ الْعَلِيمِ (12)

یہ زبردست (اور) خبر دار کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں

فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَّذَرْنَاكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13)

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ (کے عذاب)

سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ (کا عذاب آیا تھا)

إِذْ جَاءَنَّهُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچے سے آئے کہ خدا کے سوا (کسی کی) عبادت نہ کرو

قَالُوا أَلَا شَاءَ رَبُّنَا لَا نَزَّلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَنْرَسْلَمْ بِهِ كَا فِرْدُونَ (14)

کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سوجو تم دے کر بھیجے گے ہو ہم اسکو نہیں مانتے

فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقْتِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟

أَوْلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً

کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے

وَكَانُوا إِبْرَاهِيمَ يَحْمِلُونَ (15)

اور وہ ہماری آئیوں سے انکار کرتے رہے

فَأَمْرَسْلَنَا عَلَيْهِمْ بِرِيحًا صَرًّا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ

تو ہم نے بھی ان پر نجاست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی

لِئَنِ يَقْهُمْ عَذَابَ الْحَزَرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ پچھا دیں

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى

اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے

وَهُمْ لَا يُنَصِّرُونَ (16)

اور (اس روز) ان کو مدد بھی نہ ملے گی

وَأَمَّا شَمُودُ ذَهَبَ جِمَاعُهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعُمَى عَلَى الْهُدَى

اور جو شمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھادیا تھا مگر

انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا

فَأَخَذَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوُنِ يَمْنًا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17)

تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آپکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا

وَنَجَّبَنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18)

اور جو ایمان لائے اور پرہیز گاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچالیا

وَيَوْمَ مُيَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوَزَّعُونَ (19)

اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کرنے جائیں گے

حَتَّىٰ إِذَا مَاجَأُهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20)

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور
چڑیے (یعنی دوسرے اعضاء) ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے

وَقَالُوا إِلْجَلُودِهِمْ لِمَ شَهَدُتُمْ عَلَيْنَا

اور وہ اپنے چڑیوں (یعنی اعضاء) سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟

قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چڑیوں کو نطق بخشنا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21)

اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَذِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ

اور تم اس (بات کے خوف) سے تو پر دہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے
کان اور تمہاری آنکھیں اور چڑیے تمہارے خلاف شہادت دیں گے

وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22)

بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْهَادُكُمْ

اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)

اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے

ص

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَإِنَّا لَنَا مُثْوِيْ لَهُمْ

اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے

وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ (24)

اور اگر یہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی

وَقَسْطِيْنَا لَهُمْ فُرَنَاءَ فَزَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اور ہم نے (شیطانوں) کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں

نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جوان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا (کے عذاب) کا وعدہ پورا ہو گیا

إِنَّهُمْ كَانُوا أَخَاسِرِيْنَ (25)

پیشک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنِ

اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سناہی نہ کرو

وَالْعَوْا فِيْهِ لَعْلَكُمْ تَغْلِيْبُونَ (26)

اور (جب پڑھنے لگیں تو) شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو

فَلَئِنْ يَقَنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَذَابًا أَشَدِيْلًا

سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے

وَلَنَجْزِيْنَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِيْيَ كَانُوا يَعْمَلُونَ (27)

اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے

ذَلِكَ جَزَاءٌ أَعْدَاهُ اللَّهُ النَّاسُ^ص

یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے (یعنی) دوزخ

لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْحُلُولِ^ص

ان کے لئے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے

جَزَاءٌ يَمْنَأُ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28)

یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا الَّذِينَ أَخْلَلُوا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں

میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا

نَجْعَلُهُمْ مَا تَحْتَ أَقْدَأَمِنَالِيْكُونَأَمِنَ الْكَسْفَلِينَ (29)

کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے (روندا) ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے

أَلَا تَخَافُوا لَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)

(اور کہیں گے) کہ نہ خوف کرو اور نہ غمنا کہ ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ

نَحْنُ أَوْلَيَا وَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ^ص

ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی (تمہارے رفیق ہیں)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31)

اور وہاں جس (نعمت) کو تمہارا جی چاہے گا تم (کو ملے گی) اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لئے (موجود ہو گی)

نُرِّلَ مِنْ غَفُوٰرٍ تَّحِيمٍ (32)

(یہ) بخشنے والے مہربان کی طرف سے مهمانی ہے

وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا لِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے

وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33)

اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اور بھلانی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی

إِذْ فَعَلْتَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

تو (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو

فَإِذَا الَّذِي يَبْيَنُكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)

(ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَابَرُوا

اور یہ بات انہیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُوْحَظٌ عَظِيمٌ (35)

اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36)

بے شک وہ سنتا (اور) جانتا ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ

اور رات اور دن اور سورج اور چاند اسکی نشانیوں میں سے ہیں

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو

وَاسْجُدُوا إِلَيَّهِ الَّذِي خَلَقُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ (37)

بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے

فَإِنِ اسْتَكْبِرُوا

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو (خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں)

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38)

جو (فرشتے) تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اسکی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور (کبھی) تھکتے ہی نہیں

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً

اور (اے بندے یہ) اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ توز میں کو دبی ہوئی (یعنی خشک) دیکھتا ہے

إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَأَبَتْ

جب ہم اس پر پانی بر سادیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمْ يُحْيِي الْمَوْتَىَ

تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁽³⁹⁾

بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَعْفَوُنَ عَلَيْنَا

جو لوگ ہماری آیتوں میں کج را ہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں

أَكَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيٰ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یاد ہو قیامت کے دن امن و امان سے آئے

اعْمَلُوا إِمَامًا شَيْئًا

(تونیر) جو چاہو سو کرو

إِنَّهُ يَمْأَاتُهُمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁽⁴⁰⁾

جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كُرِّلَمَّا جَاءَهُمْ

جن لوگوں نے نصیحت کو نہ ماناجب وہ ان کے پاس آئی

وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٌ⁽⁴¹⁾

اور یہ تو ایک عالی مرتبہ کتاب ہے

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے

تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ⁽⁴²⁾

(اور) دانا (اور) خوبیوں والے (خدا) کی اتاری ہوئی ہے

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرَسُولِنَّ مِنْ قَبْلِكَ

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43)

بیشک تمہارا پروار دگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب الیم دینے والا بھی ہے

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں (نازل) کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اسکی آیتیں (ہماری زبان میں) کیوں کھوں کر بیان نہیں کی گئیں

أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ

کیا (خوب کہ قرآن توجی) اور (مخاطب) عربی

قُلْ هُوَ لِلَّهِ يَنِّيْ آمَنُوا اهْدَى وَشِفَاءُ

کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لئے (یہ) ہدایت اور شفا ہے

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَافِهِمْ وَقُرْوَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى

اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی (یعنی بہرا

پن) ہے اور یہ ان کے حق میں (موجب) ناپینائی ہے

أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44)

گرانی کے سبب ان کو (گویا) دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلِفَ فِيهِ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا

ج

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقُضِيَ بَيْنَهُمْ

اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلَّٰٰ مِنْهُ مُرِيبٌ (45)

اور یہ اس (قرآن) سے شک میں الجھ رہے ہیں

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنْفِسِهِ

جونیک کام کرے گا تو اپنے لئے

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہو گا

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46)

اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے

(یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے)

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُثْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

اور نہ تو پھل گا بھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيْ قَاتُوا آذِنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47)

اور جس دن وہ ان کو پکارے گا (اور کہے گا) کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کہیں

گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو (ان کی) خبر ہی نہیں

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ

اور جن کو پہلے وہ (خدا کے سوا) پکارا کرتے تھے (سب) ان سے غائب ہو جائیں گے

وَخَنُو امَاهُمْ مِنْ لَحِيَصٍ (48)

اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لئے مخلصی نہیں

لَا يَسَأَ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُنُوشُ قَنْوَطٌ (49)

انسان بھائی کی دعائیں کرتا کرتا تو غمکھتا نہیں اور اگر
تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نامید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے

وَلَئِنْ أَذْقَنَاكُمْ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلٰي

اور اگر تکلیف پہنچے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا

وَمَا أَظْنُنَ السَّاعَةَ قَائِمَةً

اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو

وَلَئِنْ مُرْجَعُكُمْ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى

اور اگر قیامت سچ بھی ہو تو میں اپنے پروردگار کی طرف
لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لئے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے

فَلَئِنِّيَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَّا عَمِلُوا وَلَئِنْ يَقْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيلٌ (50)

پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ان کو ضرور جتناں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ

اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوْدُعَاءِ عَرِيْضٍ (51)

اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ بِهِنْ

ھُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ (52)

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ (قرآن) خدا کی طرف سے ہو تو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو (حق کی) پر لے درجے کی مخالفت میں ہو

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

هم عنقریب ان کو اطراف (علم) میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ (قرآن) حق ہے

أَوْلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ مُكْلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)

کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مُرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ

دیکھو یہ اپنے پروردگار کے رو برو حاضر ہونے سے شک میں ہیں

أَلَا إِنَّهُ بِمُكْلِ شَيْءٍ لَّمْ يُحِيطُ (54)

سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com